

Lev

Chapter 26

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | לֹא- نہیں H3808 | תֵּעָשׂוּ بناؤ H3808 | לְכֶם اپنے-لیے H0068 | אֶלֵיכֶם اپنے-لیے H0068 | וּמִצִּבְחַת اور-ستون H4676 | לֹא- نہیں H3808 | תִּקְיִמוּ کھڑا-کرو H0589 | לְכֶם اپنے-لیے H0068 | וְאֵבֶן اور-پتھر H0068 |
| | מִשְׁכַּת تصویر-والا H4906 | לֹא نہیں H3808 | תִּהְיֶה یہوواہ H3068 | אֶלֵיכֶם: خدا-تمہارا H0430 | כִּי کیونکہ H0589 | עָלֶיךָ اُس-پر H7812 | בְּאֶרְצְכֶם زمین-تمہاری-میں H0776 | לְהַשְׁתַּחֲוֹת سجدہ-کرنے H7812 | אֶלֵיכֶם: خدا-تمہارا H0430 |

رکھنا پتھر ایسے میں ملک اپنے لئے کے کرنے سجدہ نہ کرنا، کھڑے ستون ہوئے کئے مخصوص کے پتھر یا مجسمے کے دیوتا لئے اپنے نہ بنانا۔ نہ بُت لئے اپنے ہوں۔ خدا تمہارا رب میں ہو۔ گئی کی کندہ تصویر کی دیوتا میں جن

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 2 | אֶת- کو H0853 | שִׁבְתֵי سبتوں-میرے H7676 | תְּשַׁמְרוּ رکھو H8104 | וּמִקְדָּשִׁי اور-مقدس-میرے H4720 | תִּירְאוּ ڈرو-سے H3372 | אֲנִי میں H0589 | יְהוָה: یہوواہ H3068 | ס [اس] |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|

ہوں۔ رب میں کرنا۔ تعظیم کی مقدس میرے اور منانا دن کا سبت

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 3 | אִם- اگر H2708 | בְּחֻקָּי میرے-میں H3212 | תֵּלְכוּ چلو H3212 | וְאֶת- اور-کو H0853 | מִצְוֹתַי احکام-میرے H4687 | וְעִשְׂתֶּם اور-کرو H0853 | אֲתֶם: اُنہیں H0853 |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

کروعمل پر اُن کر مان احکام میرے اور چلو پر ہدایات میری تم اگر

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 4 | וְנָתַתִּי اور-دوں-گا H5414 | בָּרֶשֶׁת بارشیں-تمہاری H1653 | בְּעֵת وقت-اُن-کے-پر H6256 | וְנָתַתִּי اور-دے-گی H5414 | הָאָרֶץ زمین H0776 | יְבֹלְתָהּ پیداوار-اپنی H2981 | וְעֵץ اور-درخت H6086 | הַשָּׂדֶה کھیت-کا H5414 | יָתֵן دے-گا H5414 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|

פְּרִי:
پھل-اپنا
H6529

گے۔ لائیں پھل اپنے اپنے درخت اور گی دے پیداوار اپنی زمین گا، بھیجوں بارش پر وقت میں تو

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 5 | וְהִשִּׁיג اور-پہنچے-گی H5381 | לְכֶם تمہیں-کو H1786 | רִישׁ گہائی H1786 | אֶת- کو H0853 | בְּצִיר انگور-چنائی H1210 | וּבְצִיר اور-انگور-چنائی H1210 | יִשִּׁיג پہنچے-گی H5381 | אֶת- کو H0853 | זֶרַע بوائی H2233 | וְאֶכְלֶתֶם اور-کھاؤ-گے H0398 |
| | לְחֻמְכֶם روٹی-اپنی H3899 | לְשִׁבְעָה اور-ربو-گے H7648 | וַיִּשְׁבְּתֶם اور-ربو-گے H3427 | לְבֶטַח امن H0983 | בְּאֶרְצְכֶם: زمین-تمہاری-میں H0776 | | | | | |

موسم کا ہونے بیج تک جب گی جائے توڑی تک وقت اُس فصل کی انگور اور گی رہے جاری تک وقت توڑتے انگور کٹائی کی فصل کی اناج باعث کے کثرت گے۔ ربو محفوظ میں ملک اپنے تم اور گے۔ ہو نہیں بھوکے کبھی تم کہ گی ملے خوراک اتنی گا۔ آئے

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 6 | וְנָתַתִּי اور-دوں-گا H5414 | שְׁלוֹמִי سلامتی H7965 | בְּאֶרֶץ زمین-میں H0776 | וּשְׂכַבְתֶּם اور-لیٹو-گے H7901 | וְאֵין اور-نہیں-ہوگا H0369 | מִחֲרִיד ڈرانے-والا H2729 | וְהַשְׂבָּתִי اور-مٹاؤں-گا H0589 | תִּהְיֶה جانور H0589 | רָעָה بُرے H0589 | מִן- سے H0589 |
| | הָאָרֶץ زمین H0776 | וְחֶרֶב اور-تلوار H2719 | לֹא- نہیں H3808 | תֵּעָבֵר گزرے-گی H0776 | בְּאֶרְצְכֶם: زمین-تمہاری-میں H0776 | | | | | |

گر دُور سے ملک جانور وحشی مَیں گی۔ بو نہیں ضرورت کی ڈرنے سے خطرے کسی کیونکہ گے، جاؤ لیٹ سے آرام تم گا۔ بخشوں امان و امن کو ملک مَیں
گا۔ رہے بچا سے غارت و قتل کی تلوار وہ اور گا، دوں

7 **וְרִדְפֶתָם** اور-پیچھا-کرو-گے **אֶת-** کو **אֲבִיכֶם** دشمنوں-اپنے **וְנָפְלוּ** اور-گریں-گے **לְפָנֶיכֶם** سامنے-تمہارے **לְחַרְב** تلوار-سے
H7291 H0853 H0341 H5307 H6440 H2719

گے۔ جائیں مارے سے تلوار تمہاری وہ اور گے، کرو تعاقب کا اُن کر آ غالب پر دشمنوں اپنے تم

8 **וְרִדְפוּ** اور-پیچھا-کریں-گے **מִכֶּם** تم-میں-سے **חַמְשָׁה** پانچ **מֵאָה** سو **וּמֵאָה** اور-سو **מִכֶּם** تم-میں-سے **דָּס** دس-ہزار **יִרְדְּפוּ** پیچھا-کریں-گے **וְנָפְלוּ** اور-گریں-گے
H7291 H2568 H3967 H3967 H7233 H291 H5307

אֲבִיכֶם دشمن-تمہارے **לְפָנֶיכֶם** سامنے-تمہارے **לְחַרְב:** تلوار-سے
H0341 H6440 H2719

مارے سے تلوار تمہاری دشمن تمہارے گے۔ دیں بھگا کو آدمیوں ہزار دس کے اُن آدمی سَو تمہارے اور گے، کریں پیچھا کا دشمنوں سَو آدمی پانچ تمہارے
گے۔ جائیں

9 **וּפְנִיתִי** اور-متوجہ-ہوں-گا **אֶלְיֶכֶם** تمہاری-طرف **וְהַפְרִיתִי** اور-بہلدار-کروں-گا **אֶתְכֶם** تمہیں **וְהַרְבִּיתִי** اور-بڑھاؤں-گا **אֶתְכֶם** تمہیں **וְהַקִּימְתִי** اور-قائم-کروں-گا **אֶת-** کو
H6437 H0413 H6509 H0853 H0853 H0853

בְּרִיתִי عہد-اپنا **אֶתְכֶם:** تمہارے-ساتھ
H1285 H0854

گا۔ رکھوں قائم عہد اپنا ساتھ تمہارے اور گا بڑھاؤں تعداد کی اولاد تمہاری مَیں گی۔ بو پر تم کرم نظر میری

10 **וַאֲכַלְתֶּם** اور-کھاؤ-گے **יֶשֶׁן** پرانا **נֹשֶׁן** بہت-پرانا **וַיִּשָּׂן** اور-پرانے **מִפְנֵי** سامنے-سے **חֶרֶשׁ** نئے **תּוֹצִיאֹו:** نکالو-گے
H0398 H3465 H3462 H3465 H6440 H2319 H3318

گا۔ پڑے دینا پھینک کو اناج پرانے خاطر کی بنانے جگہ لئے کے اناج نئے تو گی بو کٹائی کی فصل اگلی جب کہ گی بو فصل اتنی سال ایک

11 **וְנָתַתִּי** اور-رکھوں-گا **מִשְׁכְּנִי** مسکن-اپنا **בְּתוֹכְכֶם** درمیان-تمہارے **וְלֹא-** اور-نہیں **תִּנְעַל** نفرت-کرے-گی **נַפְשִׁי** جان-میری **אֶתְכֶם:** تمہیں-سے
H5414 H4908 H8432 H3808 H1602 H5315 H0853

گا۔ کھاؤں نہیں گھن سے تم اور گا کروں قائم مسکن اپنا درمیان تمہارے مَیں

12 **וְהִתְהַלַּכְתִּי** اور-چلوں-گا **בְּתוֹכְכֶם** درمیان-تمہارے **וְהִיִּיתִי** اور-ہوں-گا **לְכֶם** تمہیں-کے-لیے **לְאֱלֹהִים** خدا **וְאַתֶּם** اور-تم **תְּהִיוּ-** ہو-گے **לִי** میرے-لیے **לְעַם:** قوم
H1980 H8432 H1961 H0430 H1961

گے۔ بو قوم میری تم اور گا، پھروں میں تم مَیں

13 **אֲנִי** میں **יְהוָה** یہوواہ **אֱלֹהֵיכֶם** خدا-تمہارا **אֲשֶׁר** جس-نے **הוֹצֵאתִי** نکالا **אֶתְכֶם** تمہیں **מִמִּצְרַיִם** زمین-سے **מִצְרַיִם** مصر **מִהָרַת** ہونے-سے **לְהֶם** انہیں **עַבְדֵיכֶם** غلام
H0589 H3068 H0430 H3318 H0853 H0776 H4714 H1961 H5650

וְאֲשַׁבְּרָ اور-توڑا-میں-نے **מִצְרַיִם** بیبڑاں **עִלְיֶיכֶם** جوئے-تمہارے **וְאֲלֹהֵי** اور-چلاہا-میں-نے **אֶתְכֶם** تمہیں **קוֹמְמוֹת:** سیدھے-سر **פ** [پ]
H7665 H4133 H5923 H3212 H0853 H6968

اور آزاد تم اب اور ڈالا، توڑ کو جوئے تمہارے نے مَیں جائے۔ بو ختم حالت کی غلامی تمہاری تاکہ لایا نکال سے مصر تمہیں جو ہوں خدا تمہارا رب مَیں
بو۔سکتے چل کر بو سیدھے

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 14 | וְאִם- | לֹא | תִּשְׁמְעוּ | לִי | וְלֹא | תַעֲשׂוּ | אֶת | כָּל- | הַמִּצְוֹת | הָאֵלֶּה: |
| | اور-اگر | نہیں | سنو | میری | اور-نہیں | کرو | کو | تمام | احکام | ان |
| | | H3808 | H8085 | H3808 | H0853 | H3605 | H4687 | H0428 | | |

گئے، چلو نہیں پر احکام تمام ان اور گئے سنو نہیں میری تم اگر لیکن

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------|
| 15 | وְאִם- | בְּחֻקְתִּי | תִּמְאָסוּ | וְאִם | אֶת- | מִשְׁפָּטִי | תִּנְעַל | נַפְשְׁכֶם | לְבַלְתִּי | עֲשׂוֹת | אֶת- |
| | اور-اگر | فرائض-میرے | رد-کرو | اور-اگر | کو | احکام-میرے | نفرت-کریے | جان-تمہاری | نہ | کرنے | کو |
| | | H2708 | H0853 | H0853 | H4941 | H1602 | H5315 | H1115 | H0853 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| کُل- | מִצְוֹתֵי | לְהַפְרֹכֶם | אֶת- | בְּרִיתִי: |
| تمام | احکام-میرے | توڑنے-تمہارے | کو | عہد-میرے |
| H3605 | H4687 | H0853 | H1285 | |

گئے توڑو عہد میرا کے کر نہ عمل پر ان اور گئے کھاؤ گھن سے احکام میرے کے کر رد کو ہدایات میری تم اگر

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | אֶף- | אֲנִי | אֶעֱשֶׂה- | זֹאת | לְכֶם | וְהִפְקַדְתִּי | עֲלֵיכֶם | בְּהִלָּה | אֶת- | הַשְּׁחָפֶת | וְאֶת- |
| | تو-بھی | میں | کروں-گا | یہ | تمہیں-کے-ساتھ | اور-بھیجوں-گا | تم-پر | دہشت | کو | سوکھاپن | اور-کو |
| | H0637 | H0589 | H2063 | H0853 | H0928 | H0853 | H7829 | H0853 | H0853 | H0853 | H0853 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| הַקְדַּחַת | מִכְלוֹת | עֵינַיִם | וּמְדִיבַת | נֶפֶשׁ | וּזְרַעְתֶּם | לְרִיק | זְרַעְכֶם | וְאֶכְלֶהוּ |
| بخار | گھلانے-والی | آنکھوں | اور-تباہ-کرنے-والی | جان | اور-بوؤ-گے | بے کار | بیج-تمہارا | اور-کھائیں-گے-اسے |
| H6920 | H3615 | H1727 | H5315 | H2232 | H7385 | H2233 | H0398 | |

אִיבִיכֶם:
دشمن-تمہارے
[H0341](#)

جان تمہاری اور گی جائیں بو ضائع آنکھیں تمہاری سے بخار اور بیماریوں والی کرنے ختم کو جسم گا۔ دوں کر طاری دہشت اچانک پر تم میں جواب میں تو گا۔ جائے کھا فصل کی اُس دشمن کیونکہ بے فائدہ، تو گے بوؤ بیج تم جب گی۔ جائے چھن

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------|
| 17 | וְנִתְחִי | פָּנָי | בְּכֶם | וְנִנְפְתֶם | לְפָנַי | אִיבִיכֶם | וְרָדוּ | בְּכֶם |
| | اور-لگاؤں-گا | چہرہ-اپنا | تم-پر | اور-شکست-کھاؤ-گے | سامنے | دشمنوں-اپنے-کے | اور-حکومت-کریں-گے | تم-پر |
| | H5414 | H6440 | H5062 | H6440 | H0341 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| שְׁנֵאֵיכֶם | וְנִסְתֶם | וְאִין- | רָדָה | אֶתְכֶם: | ס |
| نفرت-کرنے-والے-تمہارے | اور-بھاگو-گے | اور-نہیں-بوگا | پیچھا-کرنے-والا | تمہیں | [س] |
| H8130 | H5127 | H0369 | H7291 | H0853 | |

بھی وقت اُس گے۔ کریں حکومت پر تم والے رکھنے نفرت سے تم گے۔ کھاؤ شکست سے ہاتھ کے دشمنوں اپنے تم لئے اِس گا، جاؤں ہو خلاف تمہارے میں گے۔ جاؤ بھاگ تم گا کرے نہیں تعاقب تمہارا کوئی جب

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|------|
| 18 | וְאִם- | עַד- | אֵלֶּה | לֹא | תִּשְׁמְעוּ | לִי | וְנִסְפְתִי | לְיִסְרָה | אֶתְכֶם | שִׁבְעַ | עַל- |
| اور-اگر | تک | ان | نہیں | سنو | میری | اور-بڑھاؤں-گا | سزا-دینا | تمہیں | سات | پر | |
| | H5704 | H0428 | H3808 | H8085 | H3254 | H3256 | H0853 | H7651 | | | |

חֲטֵאֵיכֶם:
کتابوں-تمہارے

گا۔ دوں سزا زیادہ گنا سات تمہیں سے سبب کے گناہوں تمہارے میں تو سنو نہ میری بھی بعد کے اِس تم اگر

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 19 | וְשִׁבְרֵתִי | אֶת- | גְּאוֹן | עֲזָבֶם | וְנִתְחִי | אֶת- | שְׁמִיכֶם | כְּבָרְזֶל | וְאֶת- |
| اور-توڑوں-گا | کو | غرور | طاقت-تمہاری | اور-بناؤں-گا | کو | آسمان-تمہارا | لوے-کی-طرح | اور-کو | |
| H7665 | H0853 | H1347 | H5797 | H5414 | H0853 | H8064 | H1270 | H0853 | |

אֲרָצְכֶם
زمین-تمہاری
כְּנַחֲשָׁה:
پیتل-کی-طرح
[H5154](#)

گی۔ ہو جیسی پیتل زمین نیچے تمہارے اور جیسا لوہے آسمان اوپر تمہارے گا۔ دوں ملا میں خاک غرور سخت تمہارا میں

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | ותם | לר'יק | כחכם | ולא | תתן | ארצכם | את | יבוליה | ועץ | הארץ |
| | اور-ختم-بو | بے کار | طاقت-تمہاری | اور-نہیں | دے-گی | زمین-تمہاری | کو | پیداوار-اپنی | اور-درخت | زمین-کا |
| | H8552 | H7385 | | H3808 | H5414 | H0776 | H0853 | H2981 | H6086 | H0776 |

לא
نہیں دے-گا
یہل-اپنا
[H3808](#)
[H5414](#)
[H6529](#)

گے۔ لائیں نہیں یہل درخت تمہارے اور گی پکیں فصلیں میں کھیتوں تمہارے کیونکہ گی، ہو بے فائدہ وہ گے کرو محنت بھی جتنی

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-------|-----------------------|
| 21 | ואם | תלכו | עמי | קר | ולא | תאבו | לשמע | לי | וספת | עליכם | מזה |
| | اور-اگر | چلو | میرے-ساتھ | مخالفت-میں | اور-نہیں | چاہو | سننا | میری | اور-بڑھاؤں-گا | تم-پر | وبا |
| | | H3212 | | H7147 | H3808 | H0014 | H8085 | | H3254 | | H4347 |

שב
سات
گناہوں-تمہارے-کے-مطابق
[H7651](#)

گا۔ دوں سزا زیادہ گناہ سات بھی سے اس تمہیں میں جواب کے گناہوں ان میں تو گے سنو نہیں میری اور گے کرو مخالفت میری بھی پھر تم اگر

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 | והשלחתי | בכם | את | חית | השדה | ושכלה | אתכם | והקריחה | את |
| | اور-بھیجوں-گا | تم-میں | کو | جانور | جنگلی | اور-بے-اولاد-کرے-گی | تمہیں | اور-کاٹ-ڈالے-گی | کو |
| | H7971 | | H0853 | | | | H0853 | H3772 | H0853 |

בהמתכם
مویشیوں-تمہارے
اور-کم-کرے-گی
[H4591](#)
אתכם
تمہیں
اور-ویران-ہوں-گے
[H8074](#)
ונשמו
راستے-تمہارے
[H1870](#)
דרכיכם:

ہو کم اتنی تعداد تمہاری میں آخر گے۔ دیں کر برباد مویشی تمہارے اور گے کھائیں پہاڑ کو بچوں تمہارے جو گا دوں بھیج جانور جنگلی خلاف تمہارے میں گی۔ جائیں ہو ویران سڑکیں تمہاری کہ گی جائے

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|------------|
| 23 | ואם | באלה | לא | תוסרו | לי | והלכתם | עמי | קרי |
| | اور-اگر | ان-سے | نہیں | تادیب-پاؤ | میری | اور-چلو | میرے-ساتھ | مخالفت-میں |
| | H0428 | H3808 | H3256 | H1980 | H7147 | | | |

ربومخالف میرے بلکہ کرو نہ قبول تربیت میری بھی پھر تم اگر

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 24 | והלکتی | אף | אני | עמכם | בקרי | והכיתי | אתכם | גם | אני | שב | על |
| | اور-چلوں-گا | بھی | میں | تمہارے-ساتھ | مخالفت-میں | اور-ماروں-گا | تمہیں | بھی | میں | سات | پر |
| | H1980 | H0637 | H0589 | | H7147 | H5221 | H0853 | H1571 | H0589 | H7651 | |

חטאתיכם:
گناہوں-تمہارے

گا۔ دوں سزا زیادہ گناہ سات تمہیں میں جواب کے گناہوں ان گا۔ جاؤں ہو خلاف تمہارے خود میں تو

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 25 | והבאתי | עליכם | חרב | נקמת | נקم | ברית | ונאספתם | אל | עריכם | ושלחתי |
| | اور-لاؤں-گا | تم-پر | تلوار | انتقام-لینے-والی | انتقام | عہد-کا | اور-جمع-ہو | میں | شہروں-اپنے | اور-بھیجوں-گا |
| | H0935 | | H2719 | H5358 | H5359 | H1285 | H0622 | H0413 | | H7971 |

דבר
وبا
درمیان-تمہارے
اور-دیے-جاؤ-گے
ہاتھ-میں
دشمن-کے
[H1698](#)
[H8432](#)
[H5414](#)
[H3027](#)
[H0341](#)
בתוככם
ونתתם
بیر
اؤب:

تمہارے میں تو گے ہو جمع کر بھاگ میں شہروں لئے کے حفاظت اپنی تم جب ہے۔ توڑا کو عہد میرے نے تم کہ گا لوں بدلہ کا اس کر چلا تلوار پر تم میں گا۔ دوں دے میں ہاتھ کے دشمنوں تمہیں اور گا پھیلاؤں بیماریاں وبائی درمیان

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 26 | בְּשִׁבְרִי توڑنے-میرے-پر H7665 | לָכֶם تمہیں-کے-لیے H4294 | מִטְהָ- سہارا H3899 | לָחֶם روٹی-کا H0644 | וְאָפוּ اور-پکائیں-گی H6235 | עֶשְׂרָה دس H0802 | נָשִׁים عورتیں H3899 | לְחַמְכֶם روٹی-تمہاری H3899 | בְּתַנּוּר تندور-میں H8574 | אֶחָד ایک H0259 |
|----|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| וְהָשִׁבוּ اور-واپس-دیں-گی H7725 | לְחַמְכֶם روٹی-تمہاری H3899 | בְּמִשְׁקָל وزن-سے H4948 | וְאֶכְלֶתֶם اور-کھاؤ-گے H0398 | וְלֹא اور-نہیں H3808 | תִּשְׁבְּעוּ: سیر-بو-گے H7646 | ס [س] |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|

گی۔ کریں تقسیم کر تول تول سے احتیاط بڑی اُسے وہ اور گی، سکیں پکا میں تنور ہی ایک روٹی پوری تمہاری عورتیں دس کہ گی ہو کمی اتنی کی اناج گے۔ رہو بھوکے بھی کر کھا تم

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 27 | וְאִם- اور-اگر H2063 | בָּזֵאת اِس-سے H3808 | לֹא نہیں H8085 | תִּשְׁמְעוּ سنو H8085 | לִי میری H1980 | וְהִלַּכְתֶּם اور-چلو H1980 | עִמִּי میرے-ساتھ H7147 | בְּקָרִי: مخالفت-میں H7147 |
|----|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

گے۔ رہو مخالف میرے بلکہ گے سنو نہیں میری بھی پھر تم اگر

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| 28 | וְהִלַּכְתִּי اور-چلوں-گا H1980 | עִמָּכֶם تمہارے-ساتھ H2534 | בְּחַמַּת- غضب H2534 | קָרִי مخالفت-کے H7147 | וְיִסְרֵתִי اور-سزا-دوں-گا H3256 | אֶתְכֶם تمہیں H0853 | אֶרֶץ- بھی H0637 | אֲנִי میں H0589 | שִׁבְעָה سات H7651 | עַל- پر |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|

חֲשֹׁאתֵיכֶם:
گناہوں-تمہارے

گا۔ دوں سزا زیادہ گنا سات تمہیں میں جواب کے گناہوں تمہارے کر ہو خلاف تمہارے میں اور گا بھڑکے غصہ میرا تو

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 29 | וְאֶכְלֶתֶם اور-کھاؤ-گے H0398 | בְּנֵיכֶם بیٹیوں-تمہارے H1320 | וּבִשְׂרָ اور-گوشت H1320 | בְּנֵיכֶם بیٹیوں-تمہارے H1320 | וְאֶכְלֶתֶם اور-کھاؤ-گے H0398 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

گے۔ کھاؤ گوشت کا بیٹیوں بیٹے اپنے باعث کے مصیبت تم

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 30 | וְהִשְׁמַדְתִּי اور-تباہ-کروں-گا H8045 | אֶת- کو H0853 | בְּמַחֲיֹכֶם اونچی-جگہوں-تمہاری H1116 | וְהִכְרַתִּי اور-کاٹ-ڈالوں-گا H3772 | אֶת- کو H0853 | חַמְנֵיכֶם بتوں-تمہارے H2553 | וְנָתַתִּי اور-ڈالوں-گا H5414 | אֶת- کو H0853 |
|----|--|---------------------|---|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| פְּנֵיכֶם لاشوں-تمہاری H6297 | עַל- پر H6297 | פְּנֵי لاشوں H6297 | גְּלוּלֵיכֶם بتوں-تمہارے H1544 | וְנִפְעָה اور-نفرت-کرے-گی H1602 | נַפְשִׁי جان-میری H5315 | אֶתְכֶם: تمہیں-سے H0853 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

لگاؤں پر بُتوں بے جان تمہارے ڈھیر کے لاشوں تمہاری میں گا۔ دوں کر برباد گاہیں قربان کی بخور تمہاری اور گاہیں قربان کی جگہوں اونچی تمہاری میں گا۔ کھاؤ گھن سے تم اور گا

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| 31 | וְנָתַתִּי اور-بناؤں-گا H5414 | אֶת- کو H0853 | עָרֵיכֶם شہروں-تمہارے H2723 | חֲרָבָה کھنڈر H2723 | וְהִשְׁמַדְתִּי اور-ویران-کروں-گا H8074 | אֶת- کو H0853 | מְקֻדְשֵׁיכֶם مقدسوں-تمہارے H4720 | וְלֹא اور-نہیں H3808 | אֲרִיחַ سونگھوں-گا H7306 |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|

בְּרִיחַ
خوشبو
H7381

נִיחָחְכֶם:
سکون-تمہارے
H5207

گی۔ آئے نہیں پسند مجھے خوشبو کی قربانیوں تمہاری گا۔ کروں برباد کو مندروں تمہارے کر بدل میں کھنڈرات کو شہروں تمہارے میں

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 32 | וְהִשְׁמַדְתִּי اور-ویران-کروں-گا H8074 | אֲנִי میں H0589 | אֶת- کو H0853 | הָאָרֶץ زمین H0776 | וְשָׁמְנוּ اور-حیران-ہوں-گے H8074 | עָלֶיהָ اُس-پر H341 | אֲבִיבֵיכֶם دشمن-تمہارے H0341 | הַיְשָׁבִים رہنے-والے H3427 | בְּהָ: اُس-میں |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|

گے۔ جائیں ہو کھڑے رونگٹے کے اُن گے جائیں ہو آباد میں اُس دشمن جو کہ گا کروں یوں ستیاناس کا ملک تمہارے میں

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 33 | וְאֶתְכֶם | אֶזְרָה | בְּנֹזִים | וְהַרְיִקְתִּי | אֶחְרִיכֶם | חָרַב | וְהִיִּתָּה | אֶרְצְכֶם | שְׂמֹנָה |
| | اور-تمہیں | بکھیروں-گا | قوموں-میں | اور-کھینچوں-گا | پیچھے-تمہارے | تلوار | اور-ہوگی | زمین-تمہاری | ویرانی |
| | H0853 | H2219 | | H7324 | | H2719 | H1961 | H0776 | |

وְעָרֵיכֶם
اور-شہر-تمہارے

יְהִיוּ
ہوں-گے

חָרְבָה:
کھنڈر

[H1961](#)

[H2723](#)

تمہارے اور گی بو ویران زمین تمہاری گا۔ کروں پیچھا تمہارا لئے میں ہاتھ کو تلوار اپنی بھی وہاں لیکن گا، دوں کر منتشر میں ممالک مختلف تمہیں میں گے۔ جائیں بن کھنڈرات شہر

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 34 | אָז | תְּרַצָּה | הָאָרֶץ | אֶת־ | שְׂבַתְתִּיהָ | כָּל־ | יְמֵי | הַשְּׁמָה | וְאַתָּם | בְּאֶרֶץ | אֲבִיכֶם |
| | تب | پورا-کرے-گی | زمین | کو | سبتوں-اپنے | تمام | دنوں | ویرانی-کے | اور-تم | زمین-میں | دشمنوں-اپنے |
| | | H7521 | H0776 | H0853 | H7676 | H3605 | H3117 | H8074 | | H0776 | H0341 |

אָז
تب

תְּרַצָּה
سبت-منائے-گی

הָאָרֶץ
زمین

אֶת־
اور-پورا-کرے-گی

שְׂבַתְתִּיהָ:
سبتوں-اپنے

כָּל־
کو

יְמֵי
اور-پورا-کرے-گی

הַשְּׁמָה
زمین

וְאַתָּם
سبت-منائے-گی

بְּאֶרֶץ
زمین

אֲבִיכֶם
دشمنوں-اپنے

[H0776](#)

[H7521](#)

[H0853](#)

[H7676](#)

بے-ربی محروم وہ سے جن گی سکے منا سال وہ کے آرام میں حالت ویران زمین تمہاری گے ربو میں ملک کے دشمنوں اپنے تم جب وقت اُس

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 35 | כָּל־ | יְמֵי | הַשְּׁמָה | תְּשַׁבֵּת | אֶת־ | אֲשֶׁר | לֹא־ | שְׂבַתָּה | בְּשַׂבְּתֵיכֶם |
| | تمام | دنوں | ویرانی-کے | سبت-منائے-گی | جو | جسے | نہیں | سبت-منابا | سبتوں-تمہارے-میں |
| | H3605 | H3117 | H8074 | H0853 | | | H3808 | | H7676 |

בְּשַׂבְּתֵיכֶם
رہے-تمہارے-میں

עָלְיָהּ:
اُس-پر

[H3427](#)

تھے۔ رہتے میں ملک تم جب ملا نہ اُسے جو گا ملے آرام وہ اُسے گی رہے برباد وہ جب میں دنوں تمام اُن

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 36 | וְהַנְּשָׂאִים | בָּכֶם | וְהַבָּאִתִּי | מִרְדָּ | בְּלִבְכֶם | בְּאֶרֶץ | אֲבִיכֶם |
| | اور-باقی-رہنے-والے | تم-میں-سے | اور-ذالوں-گا | دربم | دلوں-اُن-کے-میں | زمینوں-میں | دشمنوں-اُن-کے |
| | H7604 | | H0935 | H4816 | H3824 | H0776 | H0341 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| وְרָרָה | אֲתָם | קוֹל | עֲלָה | נִדְרָה | וְנָסוּ | מִנְסַת־ | חָרַב | וְנִפְלְוּ | וְאִין |
| اور-پیچھا-کرے-گی | انہیں | آواز | پتے | اڑتے | اور-بھاگیں-گے | بھاگنا | تلوار-سے | اور-گریں-گے | اور-نہیں-ہوگا |
| H7291 | H0853 | H5929 | H5086 | H5127 | H4499 | H2719 | H5307 | H0369 | |

חָרָה:
پیچھا-کرے-والا

[H7291](#)

سے آواز کی پتے والے گرنے سے جھونکوں کے ہوا وہ گا۔ کروں طاری دہشت میں پر دلوں کے اُن گے رہیں میں ممالک کے دشمنوں اپنے کر بچ جو سے میں تم نہیں پیچھا کا اُن کوئی حالانکہ گے جائیں مر کر گر وہ اور ہو۔ رہا کر تعاقب کا اُن لئے تلوار میں ہاتھ کوئی گویا گے ہوں فرار وہ گے۔ جائیں بھاگ کر چونک گا۔ بو رہا کر

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 37 | וְכַשְׁלֹו | אִישׁ־ | בְּאֶחָיו | כַּמְּפִי־ | חָרַב | וְרָרָה | אִין | וְלֹא־ | תְּהִיָּה |
| | اور-ٹھوکریں-گے | بر-آدمی | بھائی-اپنے-پر | جیسے-سامنے-سے | تلوار | اور-پیچھا-کرے-والا | نہیں | اور-نہیں | ہوگی |
| | H3782 | H0376 | H0251 | H6440 | H2719 | H7291 | H0369 | H3808 | H1961 |

לְכֶם
تمہیں

תְּקוּמָה
استقامت

לְפָנַי
سامنے

אֲבִיכֶם:
دشمنوں-اپنے-کے

[H0341](#)

[H6440](#)

[H8617](#)

کر نہیں سامنا کا دشمنوں اپنے تم چنانچہ ہے۔ نہیں کوئی حالانکہ ہو رہا چل پیچھے کے اُن کر لے تلوار کوئی گویا گے لڑکھڑائیں کر ٹکرا سے دوسرے ایک وہ گے۔ سکو

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| وَأَبْرَاهِيمَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ | وَأَكْلًا | أَتَكَلَّمُ | أَرْضَ | أَيُّوبَ |
| اور-براک-بو-جاؤ-گے | قوموں-میں | اور-کھا-جائے-گی | تمہیں | زمین | دشمنوں-تمہارے |
| H0006 | | H0398 | H0853 | H0776 | H0341 |

گی۔ لے کر بڑبڑ تمہیں زمین کی دشمنوں تمہارے اور گے، جاؤ بو ہلاک کر بو منتشر میں قوموں دیگر تم

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| وَالْحَمْدُ لِلَّهِ | بَنِي إِسْرَائِيلَ | وَأَكْلًا | بَنِي إِسْرَائِيلَ | وَأَكْلًا | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| اور-باقی-رہنے-والے | تم-میں-سے | گلیں-گے | گناہوں-اپنے-میں | زمینوں-میں | دشمنوں-تمہارے |
| H7604 | | H4743 | H5771 | H0776 | H0341 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| أَبْتَاهُ | أَتَمَّ | يَمْكُونُ: |
| باپ-دادا-ان-کے | ان-کے-ساتھ | گلیں-گے |
| H0001 | H0854 | H4743 |

گے۔ جائیں سڑ گل میں ممالک کے دشمنوں اپنے باعث کے قصور کے دادا باپ اپنے اور اپنے لوگ باقی سے میں تم

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| وَالْحَمْدُ لِلَّهِ | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| اور-اقرار-کریں | کو | گناہ-اپنے | اور-کو | گناہ | باپ-دادا-اپنے |
| H3034 | H0853 | H5771 | H0853 | H5771 | H0001 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------|
| بِي | وَأَخِي | أَخِي | عَمِي | بِكْرِي: |
| مجھ-سے | اور-بھی | جو | چلے-وہ | میرے-ساتھ |
| H0637 | H1980 | H7147 | | |

گے کریں تسلیم مخالفت وہ اور بے وفائی اپنی ساتھ میرے وہ گے۔ لیں مان قصور کا دادا باپ اپنے اور اپنے وہ کہ گا آئے وقت ایک لیکن

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| أَخِي | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| بھی | میں | چلوں-گا | ان-کے-ساتھ | مخالفت-میں | اور-لاؤں-گا |
| H0637 | H0589 | H3212 | H7147 | H0853 | H0935 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| أَخِي | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| تب | عاجز-بو | دل-ان-کا | نامختون | اور-تب | قبول-کریں |
| H3665 | H3824 | H6189 | H7521 | H0853 | H5771 |

کا ان اب لیکن تھا، ہوا پر طور ظاہری صرف ختنہ کا ان پہلے تھا۔ دیا دھکیل میں ملک کے دشمنوں کے ان انہیں اور ہوا خلاف کے ان میں سے سبب کے جس گے۔ کریں ادا قیمت کی قصور اپنے وہ اور گا جائے ہو عاجز دل

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| وَأَبْرَاهِيمَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| اور-یاد-کروں-گا | کو | عہد-اپنے | یاقوب-سے | اور-بھی | اور-پورا-کرے-گی |
| H2142 | H0853 | H1285 | H3290 | H0637 | H0853 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| أَبْرَاهِيمَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| ابراہیم-سے | یاد-کروں-گا | اور-زمین | یاد-کروں-گا |
| H0085 | H2142 | H0776 | H2142 |

گا۔ کروں یاد بھی کنعان ملک میں گا۔ کروں یاد عہد اپنا ساتھ کے یعقوب اور عہد اپنا ساتھ کے اسحاق عہد، اپنا ساتھ کے ابراہیم میں پھر

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| وَأَبْرَاهِيمَ | بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| اور-زمین | چھوڑی-جائے-گی | ان-سے | اور-پورا-کرے-گی | کو | سبتوں-اپنے |
| H0776 | H1992 | H1992 | H8074 | H7676 | H0853 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بَنِي إِسْرَائِيلَ |
| قبول-کریں | کو | گناہ-اپنے | کیونکہ | اور-چونکہ | احکام-میرے |
| H7521 | H0853 | H5771 | H3282 | H3282 | H4941 |

نَبِيٍّ:

جان-ان-کی-نے
[H5315](#)

اس گے، بھگتیں نتیجے کے قصور اپنے اسرائیلی یوں منائے۔ سال کے آرام کر بو ویران میں غیر موجودگی کی ان وہ تاکہ گے چھوڑیں کو زمین وہ پہلے لیکن کھائی۔ گھن سے ہدایات میری اور کئے رد احکام میرے نے انہوں کہ سے سبب

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 44 | וְאֵף- اور-بھی | גַּם- یہ | זֹאת ہوئے-ان-کے | בְּהוֹתָם زمین-میں | בְּאֶרֶץ دشمنوں-ان-کے | לֹא- نہیں | מְאֹסְתִים رد-کیا-میں-نے-انہیں | וְלֹא- اور-نہیں |
| | H0637 | H1571 | H2063 | H1961 | H0776 | H3808 | H3808 | H3808 |
| | נְעֻלְתִּים نفرت-کی-میں-نے-ان-سے | לְכַלְתָּם فنا-کرنے | לְהַפֵּר توڑنے | בְּרִיתִי عہد-اپنے | אִתָּם ان-کے-ساتھ | כִּי کیونکہ | אֲנִי میں | יְהוָה یہوواہ |
| | H1602 | H3615 | H1285 | H0854 | H0589 | H3068 | H0430 | H0430 |

میں کیونکہ جائیں۔ ہو تباہ بالکل وہ کہ گا کھاؤں گھن سے ان تک یہاں نہ گا، کروں نہیں رد کر چھوڑ میں ملک کے دشمنوں انہیں میں بھی باوجود کے اس ہوں۔ خدا کا ان رب میں کا۔ توڑنے نہیں عہد اپنا ساتھ کے ان

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45 | וְזִכְרֹתִי اور-یاد-کروں-گا | לָקַח ان-کے-لیے | בְּרִית عہد | רֵאשִׁימִים پہلوں-کے | אֲשֶׁר جنہیں | הוֹצֵאתִי- نکالا-میں-نے | אִתָּם انہیں | מִצְרַיִם مصر |
| | H2142 | H1285 | H7223 | H3318 | H0853 | H0776 | H4714 | H4714 |
| | לְעֵינַי آنکھوں-کے-سامنے | הַגּוֹזִים قوموں | לְהוֹת ہونے | לָקַח ان-کے-لیے | לְאֱלֹהִים خدا | אֲנִי میں | יְהוָה: یہوواہ | |
| | H1961 | H0430 | H0589 | H3068 | | | | |

نکال سے مصر دیکھتے دیکھتے کے قوموں دوسری میں جنہیں عہد ساتھ کے لوگوں ان گا، کروں یاد عہد ہوا بندھا ساتھ کے دادا باپ کے ان خاطر کی ان میں ہوں۔ رب میں ہوں۔ خدا کا ان تاکہ لایا

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 46 | אֱלֹהֵי یہ | הַחֲקִים فرائض | וְהַמְשָׁפְטִים اور-احکام | וְהַתּוֹרָה اور-شریعتیں | אֲשֶׁר جو | נָתַן دے | יְהוָה یہوواہ-نے | בְּיָדוֹ اپنے | וּבִין اور-درمیان | בְּיַד بیٹوں |
| | H0428 | H2706 | H4941 | H8451 | H5414 | H3068 | H0996 | H0996 | H0996 | H0996 |
| | יִשְׂרָאֵל اسرائیل-کے | בְּהָר پہاڑ-پر | סִינַי سینائی | בְּיַד- ہاتھ-سے | מֹשֶׁה: موسی | פ [پ] | | | | |
| | H3478 | H2022 | H5514 | H3027 | H4872 | | | | | |

دیئے۔ پر پہاڑ سینا احکام اور ہدایات تمام یہ لئے کے اسرائیلیوں کو موسیٰ نے رب